

11 مارچ، 2020

عزیزی اہل خانہ،

ہمارے تمام طلباء، عملے، اور خاندانوں کی صحت اور حفاظت مسلسل DOE کی اولین ترجیح رہے گی۔ نیویارک شہر شعبہ برائے صحت اور دماغی صحت کی موجودہ تجاویز کی بنیاد پر، اور انتہائی احتیاط کی وجہ سے، ہم اپنے تمام مڈل اسکولوں کو اس ہفتے مارچ والدین اساتذہ کانفرنسوں کے لیے فون یا ٹیکنالوجی پر مبنی انتخابات استعمال کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔

جمعرات (3/12) کی شام اور جمعہ (3/13) کی دوپہر کو شیڈول کردہ کانفرنسیں ابھی بھی منعقد ہونگی؛ تاہم آپ کو بذاتِ خود شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بجائے، والدین اساتذہ کانفرنسیں بذریعہ فون یا ورچوئل ہونگی۔

فی الحال، آپ کو ذیل جاننے کی ضرورت ہے:

- کیونکہ اسکول اور والدین کے کیلنڈر پر اس ہفتے کانفرنسوں کے لیے وقت پہلے ہی مقرر کر دیا گیا ہے، والدین اساتذہ کانفرنسیں منصوبے کے مطابق واقع ہونگی۔ تاہم، ان کو بذاتِ خود منعقد کرنے کے بجائے، ہم آپ سے ورچوئل یا بذریعہ فون حصہ لینے کی گزارش کریں گے۔
  - آپ کے اسکول سے کوئی فرد آپ سے بطور پیش قدمی بذریعہ فون یا ورچوئل کانفرنس کے بارے میں رابطہ کرے گا۔ اگر آپ 3/12 کی شام کی کانفرنس یا 3/13 کی دوپہر کی کانفرنس میں ورچوئل یا بذریعہ فون رابطہ کرنے سے قاصر ہیں، اسکول ایک ایسے وقت کے لیے دوبارہ شیڈول کر سکتا ہے جو آپ کے لیے سہل ہو۔
  - والدین اساتذہ کانفرنسوں کے لیے تیار ہونے کے لیے، خاندان نیویارک شہر اسکولز اکاؤنٹس (NYCSA) کے ذریعے اپنے بچے کے گریڈز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ابھی تک ایک اکاؤنٹ نہیں ہے، ذیل پر جائیں:  
<https://www.schools.nyc.gov/learning/in-our-classrooms/nyc-schools-account>
- ہم اس وقت آپ کی نرم خوئی کی ستائش کرتے ہیں۔ یہ تبدیلی ہمیں والدین اور طلباء کے تحفظ اور صحت کو فروغ دینے میں مدد دے گی، اور ساتھ ہی یہ یقینی بنائے گی کہ آپ کے بچے کے اساتذہ کے ساتھ یہ اہم گفت و شنید واقع ہو۔
- براہ مہربانی اسکول سے متعلقہ اہم جدید معلومات کے لیے کسی بھی وقت [schools.nyc.gov/coronavirus](https://www.schools.nyc.gov/coronavirus) پر جائیں۔

بخلوص،



Richard A. Carranza  
چانسلر  
نیویارک شہر محکمہ تعلیم